

## بکس 1: اسٹیٹ بینک کا نظامیاتی خطرے کا سروے گیارھویں لہر (جنوری 2023ء)

(وضاحت: یہ نتائج سروے کے جواب دہندگان کی رائے کو ظاہر کرتے ہیں، نیز اسٹیٹ بینک کے نقطہ نظر کی عکاسی نہیں کرتے)

3- جواب دہندگان بینکاری نظام کے استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پورے مالی شعبے پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے رہے۔ جواب دہندگان کی بڑی تعداد نے مالی نظام کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضابطہ کار (اسٹیٹ بینک) کی صلاحیت پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ (چارٹ د)۔

4- گزشتہ تین لہروں کے نتائج کے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرے کی مختلف جہتوں کے حوالے سے جواب دہندگان کا خطرے کا تاثر بالعموم بڑھ گیا ہے، تاہم یہ اضافہ بالخصوص سیاسی عدم استحکام، عدم توازن، مہنگائی اور توانائی کے بحران کے ضمن میں ظاہر ہوا ہے۔ (چارٹ ہ)۔

اسٹیٹ بینک نے اپنے ششماہی نظامیاتی خطرے کے سروے (SRS) کی گیارھویں لہر جنوری 2023ء میں مکمل کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ کے شرکاء سے خطرے کے حوالے سے تاثرات معلوم کیے جائیں اور مالی نظام کے استحکام پر ان کے اعتماد کو جانچا جاسکے۔ سروے میں حال اور مستقبل (اگلے چھ ماہ کے دوران) کے بارے میں خطرے کے پانچ وسیع زمروں یعنی عالمی، کئی معاشی، مالی منڈیاں، ادارہ جاتی اور عمومی خطرے پر شرکاء کے تاثرات معلوم کیے گئے۔


موجودہ لہر کے جواب دہندگان میں مالی اداروں کے سینئر عہدیدار، مالی جرنلسٹ، اور دیگر شامل تھے۔ حوصلہ افزا طور پر موجودہ لہر میں شرکاء کی تعداد بڑھ کر 215 ہو گئی (دسویں لہر میں 101 تھی) نیز جوابات کی شرح 53 فیصد تھی (دسویں لہر میں 51 فیصد)۔

### نتائج کا خلاصہ:


1- فی الوقت مجموعی طور پر جواب دہندگان ”مالی منڈیوں کے خطرات“ اور ”ملکی کئی معاشی خطرے“ کے زمروں کو اہم ترین کا درجہ دیتے ہیں۔ (چارٹ الف)۔ یہ تاثر اگلے چھ ماہ تک یہی رہے گا کیونکہ جواب دہندگان کے خیال میں خطرات کے یہ دو ذرائع برقرار رہیں گے (چارٹ ب)۔

2- فی الوقت تمام خطرات میں سے بلند ترین درجے کا خطرہ ”شرح مبادلہ کا خطرہ“ ہے اس کے بعد ”ملکی مہنگائی میں اضافے کا خطرہ“، اور ”توانائی کے بحران (پجلی اور ایندھن کی قلت)“ کے خطرات کا نمبر آتا ہے۔ جواب دہندگان کی کے مطابق اگلے چھ ماہ میں یہ خطرات نیز ”سیاسی عدم استحکام“ بلند خطرات رہیں گے (چارٹ ج)۔


### چارٹ الف: نظامیاتی خطرے کے اسباب کے بارے میں رائے - موجودہ




### چارٹ ب: نظامیاتی خطرے کے اسباب کے بارے میں رائے - اگلے 6 مہینے



### چارٹ ج: بتائے گئے 10 سرفہرست خطرات



### چارٹ ج: مالی استحکام پر اعتماد



### چارٹ ہ: اسٹیٹ بینک کے نظامیاتی خطرے کے سروے کے موازنے کا موازنہ (نویں، دسویں اور گیارہویں لہر)

|                        |                                        | 9th Wave<br>(Jan-22) | 10th Wave<br>(Jul-22) | 11th Wave<br>(Jan-23) |                     |                                                       | 9th Wave<br>(Jan-22) | 10th Wave<br>(Jul-22) | 11th Wave<br>(Jan-23) |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                        | Present<br>(Average) | Present<br>(Average)  | Present<br>(Average)  |                     |                                                       | Present<br>(Average) | Present<br>(Average)  | Present<br>(Average)  |
| Global Risks           | Slowdown in global growth              | 2.52                 | 2.25                  | 2.17                  | Institutional Risks | Regulatory risk                                       | 2.55                 | 2.70                  | 2.67                  |
|                        | Sovereign default risk                 | 2.99                 | 2.51                  | 2.38                  |                     | Legal risk                                            | 2.89                 | 3.02                  | 2.91                  |
|                        | Lack of funding from abroad            | 2.49                 | 1.93                  | 1.93                  |                     | Asset quality deterioration                           | 2.53                 | 2.45                  | 2.29                  |
|                        | Volatility in commodity prices         | 1.89                 | 1.77                  | 1.82                  |                     | Shortfall in capital requirement                      | 2.65                 | 2.55                  | 2.39                  |
|                        | Slowdown in domestic growth            | 2.22                 | 2.10                  | 2.00                  |                     | Access to funding (deposit mobilization & borrowings) | 2.82                 | 2.71                  | 2.63                  |
| Macroeconomic Risks    | Increase in domestic inflation         | 1.99                 | 1.83                  | 1.67                  | General Risks       | Excessive private sector credit                       | 2.83                 | 2.67                  | 2.62                  |
|                        | Widening fiscal deficit                | 2.09                 | 1.92                  | 1.79                  |                     | Concentration risk in PSC                             | 2.80                 | 2.68                  | 2.63                  |
|                        | Deterioration of BoP                   | 2.11                 | 1.88                  | 1.74                  |                     | Concentration risk in mutual fund                     | 3.11                 | 3.15                  | 3.06                  |
|                        | Sovereign rating downgrade             | 2.47                 | 2.20                  | 1.98                  |                     | Operational risk                                      | 2.70                 | 2.87                  | 2.76                  |
|                        | Slowdown in corporate sector growth    | 2.63                 | 2.43                  | 2.22                  |                     | Cyber security risk                                   | 2.13                 | 2.39                  | 2.34                  |
| Financial Market Risks | Slowdown in infrastructure development | 2.75                 | 2.67                  | 2.52                  |                     | Disruption in financial market                        | 2.79                 | 2.75                  | 2.61                  |
|                        | Deterioration in household savings     | 2.10                 | 1.99                  | 1.91                  |                     | Terrorism                                             | 2.66                 | 2.67                  | 2.41                  |
|                        | Volatility in real estate prices       | 2.91                 | 2.69                  | 2.69                  |                     | Geopolitical risk for Pakistan                        | 2.39                 | 2.28                  | 2.21                  |
|                        | Energy crisis                          | 2.34                 | 1.78                  | 1.73                  |                     | Natural disasters/Increasing threat of climate change | 2.73                 | 2.57                  | 2.34                  |
|                        | Political uncertainty                  | 2.49                 | 1.91                  | 1.75                  |                     | Social unrest                                         | 2.79                 | 2.43                  | 2.29                  |
|                        | Foreign exchange rate risk             | 1.91                 | 1.77                  | 1.54                  |                     |                                                       |                      |                       |                       |
|                        | Equity price risk                      | 2.64                 | 2.42                  | 2.33                  |                     |                                                       |                      |                       |                       |
|                        | Interest rate risk                     | 2.18                 | 2.04                  | 1.93                  |                     |                                                       |                      |                       |                       |
|                        | Liquidity risk                         | 2.62                 | 2.33                  | 2.15                  |                     |                                                       |                      |                       |                       |